

## 34571- برے اخلاق کی مالک بیوی کو طلاق

### سوال

میرے سالے کی بیوی اپنی ساس کے ساتھ برے اخلاق اور بے ادبی سے پیش آتی اور اس کی ہمیشہ بے عزتی کرتی ہے، ساس میری بیوی کو ٹیلی فون کر کے ہوسے تنگ آکر روتی ہے میری ساس کی ایک ہی بیٹی اور ایک بیٹا ہے، کئی بار شکوی شکایت کے بعد انہوں نے ہوسے گھر والوں سے بات کر کے ان کی بیٹی معاملات کی شکایت بھی کی لیکن کوئی فائدہ نہیں۔

اور نہ ہی معاملہ سدھرتا نظر آتا ہے اس لیے انہوں نے طلاق کا سوچا اور اسے طلاق دے دی تو کیا ایسا کرنا صحیح تھا؟

### پسندیدہ جواب

### الحمد للہ

اصل میں طلاق مکروہ ہے جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں وہ چار مہینے انتظار کریں اگر تو وہ باز آجائیں اور واپس آجائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر وہ طلاق دینے کا عزم کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے﴾۔

اللہ تعالیٰ نے لوٹنے کے بارہ میں فرمایا کہ: ﴿سننے والا اور رحم کرنے والا ہے﴾، اور طلاق میں فرمایا: ﴿سننے والا اور جاننے والا ہے﴾۔ تو اس میں کچھ تحدید اور ڈراویا ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طلاق مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔

لیکن بعض اوقات حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ طلاق کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو معاملہ طلاق کے وجوب تک جا پہنچتا ہے، تو جو حالات سائل نے ذکر کیے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ مناسب حل طلاق ہی ہو۔

اس لیے کہ خاوند کے بیوی پر حقوق میں شامل ہے کہ وہ اس کے خاندان والوں کی عزت و توقیر اور احترام کرے، اور پھر خاص کر ساس جو کہ خاوند کی والدہ بھی ہے کیونکہ آدمی پر والدہ کا حق بیوی کے حق سے مقدم ہے، تو اس لیے بیوی کو خاوند کی والدہ کے بارہ میں ادب و احترام اور صلہ رحمی میں خاوند کا معاون و مددگار ہونا چاہیے۔

علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ طلاق ضرورت کے وقت مباح ہے (جب اس کی ضرورت پیش آئے بیوی کے برے اخلاق اور اس کی بری معاشرت اور رہن سہن اور بغیر کسی غرض کے ضرر اور نقصان دینے کی حالت میں) دیکھیں المغنی ابن قدامہ (324/10)۔

واللہ اعلم.